

36638 - کیا کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر سکتا ہے ؟

سوال

کسی اسلامی ملک کی جانب ہجرت کرنا سنت ہے، لہذا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح برطانیہ سے سعودی عرب کے شہر مدینہ طیبہ میں منتقل ہونا جائز ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

ایسے شخص کے لیے جو کفار ممالک میں رہ کر اسلامی شعار اور احکام پر عمل نہیں کر سکتا، اور اپنے دین کا کھلے عام اظہار نہیں کر سکتا اس کے لیے کفریہ ممالک کو خیر باد کہہ کر کسی اسلامی ملک کی جانت ہجرت کرنا واجب ہے۔

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ اور وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے النساء (97)

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے"

سنن ابو داؤد حدیث نمبر (2645)، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

لیکن جو اپنے دین کو ظاہر کرنے پر قادر ہو اس پر ہجرت کرنی واجب نہیں ہے۔

اس کی مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ سوال نمبر (13363) کا جواب دیکھیں۔

اور اگر وہ یہ دیکھے کہ اس کا اپنے ملك ميں رہنا لوگوں كو دعوت الی اللہ دینے اور تبلیغ کرنے ميں زیادہ سود و نفع مند ہے، اور اسے اپنے دین کا بھی خطرہ نہیں تو پھر اس کا اس ملك ميں ہی رہنا ہجرت کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔

مزید تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر ( 47672 ) کا جواب ضرور دیکھیں۔

اور ہجرت کے لیے شرط نہیں کہ شرط مدینہ شریف کی طرف ہی کی جائے، بلکہ ہجرت پر اس اسلامی ملك کی طرف کی جا سکتی ہے جہاں وہ رہ کر اور بود و باش اختیار کر کے دینی احکام و شعار پر عمل پیرا رہ سکے، اور اسے اپنے دین کا کوئی خطرہ نہ ہو۔

آپ اسلامی ملك کی طرف ہجرت کے حکم کی تفصیل سوال نمبر ( 7191 ) کے جواب ميں دیکھیں۔

واللہ اعلم .